



### کووڈ-19 کے بارے میں اپ ڈیٹس: برامپٹن کورٹ ہاؤس کو 6 جولائی سے کھولا جا رہا ہے اور سپرے پیڈ کے اوقات میں توسیع کر دی گئی ہے۔

برامپٹن، آن (6 جولائی 2020) - سٹی آف برامپٹن کو دوبارہ کھولنے اور بحالی کے منصوبے کے ایک حصے کے طور پر برامپٹن کے پرووینشل اوفینسز کورٹ ہاؤس کو مورخہ 6 جولائی سے کھولا جا رہا ہے اور سپرے پیڈ کے اوقات میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔

سٹی کمیونٹی کی صحت و سلامتی کو نہایت سنجیدگی سے دیکھتا ہے اور عوام کے تحفظ اور سلامتی کی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا۔

#### کورٹ ہاؤس

اوتیریو کی کورٹ آف جسٹس پرووینشل اوفینسز کورٹ واقع بمقام 5 رے لاسن بولیورڈ کو مورخہ 6 سے کھول دیا جائے گا۔

کورٹ ہاؤس میں تشریف لانے والے خواتین و حضرات کے لیے تمام سائن بورڈز اور سمتوں کی ہدایات پر عمل کرنا لازمی ہو گا۔ داخلے کے لیے ایک ایک طرفہ دروازہ مختص کر دیا گیا ہے، جہاں پر ایک سیکورٹی گارڈ تشریف لانے والے لوگوں کا استقبال کرے گا۔ تشریف لانے والے لوگوں کو داخل ہونے سے پہلے کووڈ-19 کے متعلق سیلف سکریننگ کے بارے میں پوسٹ شدہ کچھ سوالات پر بھی غور کرنا ہو گا۔ داخل ہونے پر ہینڈ سینیٹائزر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے بعد اپنی باری کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے تشریف لانے والے لوگ انفارمیشن کاؤنٹر پر جا سکیں گے۔

اگر قطار کی گنجائش پوری ہو گئی ہو، تو تشریف لانے والے لوگوں سے ان کا سیل نمبر لے لیا جائے گا اور انہیں بذریعہ ٹیکسٹ میسج ان کی باری کا نمبر بھیجا جائے گا۔ انہیں باہر جا کر انتظار کرنے کو کہا جائے گا اور جب انہیں ان کی باری آنے کا ٹیکسٹ میسج موصول ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ عمارت کے اندر آ سکیں گے۔ عمارت میں موجود مختلف سروس ایریاز میں جانے کے لیے لوگوں کی رہنمائی فرس پر لگائے گئے مختلف رنگوں کے نشانات کی مدد سے کی جائے گی۔

براہ کرم توجہ فرمائیں کہ صوبائی جرائم کے ایکٹ سے متعلق ذاتی حیثیت سے چلنے والے جملہ معاملات کو 11 ستمبر 2020 تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ نوٹس کی ایک نقل اوتیریو کورٹ آف جسٹس کی [ویب سائٹ](#) پر دستیاب ہے

#### سپرے پیڈز

6 جولائی سے سپرے پیڈز کے اوقات کار میں توسیع کر دی گئی ہے۔ برامپٹن میں سپرے پیڈ اب صبح 10 تا شام 8 تک کی بجائے، موسم کی صورت حال کے مطابق، صبح 9 تا شام 9 بجے تک کھلے رہیں گے۔ سپرے پیڈز کی فہرست اور ان کے مقامات کے بارے میں جاننے کے لیے [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) ملاحظہ کریں۔

#### کرونا وائرس (کووڈ-19) کے لیے حفاظتی اقدامات

پبل پبلک ہیلتھ اور سٹی آف برامپٹن کی جانب سے شہریوں سے پرزور گزارش کی جاتی ہے کہ وہ باہمی جسمانی فاصلہ بندی کا خیال رکھیں۔ اپنے ہاتھوں کو کثرت سے صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھونے سے ہاتھوں کی حفظان صحت پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور چلتے پھرتے الکحل پر مبنی ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ کھانسی اور چھینکوں کو ٹشو پیپر یا اپنی کہنی سے ڈھانپیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئیں یا سینیٹائز کریں۔

اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، تو براہ کورٹ کورٹ ہاؤس یا سپرے پیڈز میں نہ جائیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)